

PAPER CODE

NUMBER: 3471

2019 (A)

MN-1961

ارول نمبر

SSC PART-II (10th CLASS)

PHYSICS (NEW SCHEME) GROUP-I (2015-2017 سیشن)

فزکس (نیو سکیم) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کٹ کر بھرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو بھرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

(1) The time period of vibrating mass spring system, when its mass become doubled:-

(A) Remain same ایک جیسا رہے گا (B) Become half آدھا ہو جائے گا (C) Increased بڑھ جائے گا (D) Decreased کم ہو جائے گا

(2) The speed of Sound is greater in:-

(A) Water پانی (B) Air ہوا (C) Metal مٹیل (D) Vacuum وکیوم

(3) An object is placed at a distance 30 cm from a concave lens. Its image forms at 10 cm from lens. The magnification of lens is:-

(A) $\frac{1}{3}$ (B) 3 (C) 10 (D) 15

(4) The magnifying power of simple microscope is:-

(A) $\frac{f_o}{f_e}$ (B) $\frac{f_e}{f_o}$ (C) $1 - \frac{d}{f}$ (D) $1 + \frac{d}{f}$

(5) The correct relation for Coulomb's Force is:-

(A) $F = K \frac{q_1 q_2}{r}$ (B) $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ (C) $F = \frac{1}{K} \frac{q_1 q_2}{r}$ (D) $F = \frac{1}{K} \frac{q_1 q_2}{r^2}$

(6) If 0.5 C charge pass through a wire in 10 s, then _____ will be the value of current flowing through the wire.

(A) 0.05 A (B) 0.5 A (C) 5 A (D) 20 A

(7) If we doubled the length of mettalic wire while other factors remain same, then its resistance will be:-

(A) Half آدھی (B) Doubled دگنا (C) Quadruple چوتھائی (D) Remain same تبدیل نہیں ہوگی

(8) _____ part of D.C. motor reverses the direction of current flowing the coil every half cycle.

(A) The commutator کموٹیٹر (B) The brushes برشز (C) Slips rings سلیپ رنگز (D) The armature آرمیچر

(9) If a metal is heated to high temperature, it emits the particles:-

(A) Protons پروٹونز (B) Neutrons نیوٹرونز (C) Electrons الیکٹرونز (D) Positive ions پازٹیو آئنز

(10) Which of the gate is used to convert one logic level into opposite logic level?

(A) NOT gate ناٹ گیٹ (B) AND gate اینڈ گیٹ (C) OR gate آر گیٹ (D) Both AND and OR gate اینڈ اور آر گیٹ دونوں

(11) In Computer Terminology, Information means:-

(A) Any data کوئی بھی ڈیٹا (B) Raw data فائو ڈیٹا (C) Large data زیادہ ڈیٹا (D) Processed data پروسیسڈ ڈیٹا

(12) The Isotopes of Iodine 131 is used in the treatment of:-

(A) Blood Cancer خون کا کینسر (B) Bone Cancer ہڈیوں کا کینسر (C) Lungs Cancer پھیپھڑوں کا کینسر (D) Thyroid Cancer تھائی رائیڈ کینسر

SSC PART-II (10th CLASS)

PHYSICS (NEW SCHEME) GROUP-I

(سیشن 2015-2017)

فزکس (نیو سکیم) گروپ - پہلا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48

کل نمبر = 48

NOTE: - Write same question number

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور بڑا نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرپے میں درج ہے۔

and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2- Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

- State Hooke's Law and write its equation.
- How time period of a Simple Pendulum can be determined?
- What is Reciprocal of Time Period? Define it.
- What is meant by SONAR?
- Which equation is used to find the Speed of Sound?
- What is the difference between Generator and Motor?
- What is Transformer? Write its types.
- What is the function of Split Rings in a D.C motor?

- سوال نمبر 2- کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔
- جب کا قانون بیان کیجیے اور اس کی ایک مساوات لکھیے۔
- سپل پنڈولم کا نام پیرڈ کے لیے معلوم کیا جاتا ہے؟
- نام پیرڈ کا کارسی پر عمل کیا ہے؟ اس کی تعریف کیجیے۔
- سونار سے کیا مراد ہے؟
- آواز کی سپیڈ معلوم کرنے کے لیے کون سی مساوات استعمال کی جاتی ہے؟
- جزیر اور موٹر میں کیا فرق ہے؟
- ٹرانسفارمر کیا ہے؟ اس کی اقسام تحریر کریں۔
- ڈی سی موٹر میں پلٹ رنگز کا کیا کام ہے؟

3- Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

- Differentiate between Angle of Incident and Angle of Reflection.
- What is the Refractive Index of Ice and Water?
- Define the terms Resolving Power and Magnifying Power.
- What is meant by Fax Machine?
- What is meant by the term "Word Processing" and "Data Managing"?
- Write names of four input devices of Computer.
- Write two characteristics of Beta Radiation.
- What is meant by Artificial Radioactivity?

- اینگل آف انڈینٹیشن اور اینگل آف ریفلیکشن میں فرق بیان کریں۔
- برف اور پانی کا فریکٹیو انڈیکس کیا ہے؟
- ریزولونگ پاور اور میگنIFYING پاور کی تعریفیں کریں۔
- فیکس مشین سے کیا مراد ہے؟
- ورڈ پروسیسنگ اور ڈیٹا منیجنگ کی اصطلاح سے کیا مراد ہے؟
- کمپیوٹر میں ان پٹ کے چار آلات کے نام لکھیے۔
- بیٹا ریڈی ایشن کی دو خصوصیات لکھیں۔
- آرٹیفیشل ریڈیو اکتیوٹی سے کیا مراد ہے؟

4- Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

- Define Fixed Capacitor. Give one example.
- Write two uses of Capacitors.
- What is meant by Capacitance of Capacitor? Define unit of Capacitance.
- Define Electromotive Force.
- What is Voltmeter?
- Define Ohm.
- What is OR gate? Write its Truth Table.
- Write two uses of Logic gates.

- سوال نمبر 4- کوئی سے پانچ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔
- فیکسڈ کیپیسٹر کی تعریف کیجیے۔ اس کی ایک مثال لکھیں۔
- کیپیسٹرنس کے دو استعمالات لکھیں۔ کیپیسٹرنس کے یونٹ کی تعریف لکھیں۔
- الیکٹرو موٹو فورس کی تعریف کیجیے۔
- وولٹ میٹر کیا ہے؟
- اوہم کی تعریف کیجیے۔
- آر جیٹ کیا ہے؟ اس کا ٹرو تھیل لکھیں۔
- لا جک گٹس کے دو استعمالات لکھیں۔

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any two questions.

18 = 9 x 2

نوٹ - کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- What is meant by Nearsightedness and Farsightedness? How can these defects be corrected?

5- (الف) قریب نظری اور بعید نظری سے کیا مراد ہے؟ ان نقائص کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟

5

(ب) سادہ پنڈولم کا نام پیرڈ 2 s ہے۔ اس کی زمین پر لمبائی کیا ہوگی؟ اگر $g_m = \frac{g_e}{6}$ جبکہ $g_e = 10ms^{-2}$

- The time period of a simple pendulum is 2 s. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon? If $g_m = \frac{g_e}{6}$ where $g_e = 10ms^{-2}$

- Discuss the main features of series combination of resistors. 4
- (الف) سیریز طریقے سے جوڑے گئے رزسٹرز کی اہم خصوصیات بیان کیجیے۔
- (ب) ایک سیریز لاپٹ کی کوسی ٹینس $100 \mu F$ ہے۔ اگر اس کی پلٹس کے درمیان پوٹنشل ڈفرینس 50 V ہو تو کیپیسٹر کی ہر پلٹ پر سٹور ہونے والے چارج کی مقدار معلوم کیجیے۔ 5

- The capacitance of a parallel plate capacitor is $100 \mu F$. If the potential difference between its plates is 50 volts, find the quantity of charge stored on each plate. 4

- Describe using simple diagrams what happens when a narrow beam of electrons passes through uniform electric field and uniform magnetic field? 4
- (الف) ایک سادہ ڈایا گرام کی مدد سے وضاحت کریں کہ جب الیکٹرونز کی عمدہ بیم یونیفارم الیکٹریک فیلڈ اور یونیفارم میگنیٹک فیلڈ سے گزرتی ہے تو بیم پر کیا اثر پڑتا ہے؟

- Describe using simple diagrams what happens when a narrow beam of electrons passes through uniform electric field and uniform magnetic field? 5
- (ب) کاربن-14 کی ہاف لائف 5730 سال ہے۔ کاربن-14 کی ابتدائی مقدار کا $\frac{1}{8}$ تک کم ہوجانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟

- Carbon-14 has a half life of 5730 years. How long it will take for the quantity of Carbon-14 in a sample to drop to one-eighth of the initial quantity.

PAPER CODE
NUMBER: 3476

2019 (A) MN-19672 رول نمبر
SSC PART-II (10th CLASS)

PHYSICS (NEW SCHEME) GROUP-II (سیشن 2015-2017) گروپ - دوسرا (نیو سکیم) فزکس

TIME ALLOWED: 15 Minutes

OBJECTIVE حصہ معروضی

وقت = 15 منٹ

MAXIMUM MARKS: 12

کل نمبر = 12

نوٹ - ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کرنے یا کٹ کر مار کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو مار کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر مرحلہ نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1-

(1) The out put of NAND gate is 0 when:-

(NAND) اینڈ گیٹ کی آؤٹ پٹ صفر ہوگی جبکہ:- (1)

(A) A = 0, B = 0

(B) A = 1, B = 1

(C) A = 1, B = 0

(D) A = 0, B = 1

(2) In Computer Terminology, Information means:-

کمپیوٹر میں لوجی میں انفارمیشن کا مطلب ہے۔ (2)

(A) Any data کوئی بھی ڈیٹا

(B) RAW data خام ڈیٹا

(C) Processed data پروسیسڈ ڈیٹا

(D) Large data زیادہ ڈیٹا

(3) One of the isotopes of Uranium is ${}_{92}^{238}U$

یورینیم کا ایک آئسوٹوپ ${}_{92}^{238}U$ ہے۔ اس آئسوٹوپ میں نیوٹرونز کی تعداد ہے۔ (3)

The number of Neutrons in this isotope is:-

(A) 92

(B) 146

(C) 238

(D) 330

(4) The relation between v , f and λ of a wave is:-

ایک ویو کی ولاٹیٹی، فریکوئنسی اور ویو لینتھ کے درمیان تعلق ہے۔ (4)

(A) $v_f = \lambda$

(B) $\lambda_f = v$

(C) $v\lambda = f$

(D) $v = \frac{\lambda}{f}$

(5) Speed of sound at $25^{\circ}C$ in Flint glass is:-

چمکدار گلاس میں $25^{\circ}C$ پر آواز کی سپیڈ ہے۔ (5)

(A) 5950 m/s

(B) 6040 m/s

(C) 5960 m/s

(D) 3980 m/s

(6) Refractive Index of Air is:-

ہوا کا فریکٹیو انڈیکس ہوتا ہے۔ (6)

(A) 1.36

(B) 1.00

(C) 1.31

(D) 1.33

(7) The Index of Refraction depends on:-

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار ہوتا ہے۔ (7)

(A) The focal length فوکل لینتھ پر

(B) The speed of light روشنی کی سپیڈ پر

(C) The image distance امیج کے فاصلہ پر

(D) The object distance جسم کے فاصلہ پر

(8) The equation of Electric Field Intensity is:-

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی مساوات ہے۔ (8)

(A) $E = \frac{q_0}{F}$

(B) $q_0 = \frac{E}{F}$

(C) $F = \frac{E}{q_0}$

(D) $E = \frac{F}{q_0}$

(9) Specific resistance of Graphite is:-

گرافائٹ کی سپیسفک ریزیسٹنس ہوتی ہے۔ (9)

(A) $3500 \times 10^{-8} \Omega m$

(B) $100 \times 10^{-8} \Omega m$

(C) $9.8 \times 10^{-8} \Omega m$

(D) $10.6 \times 10^{-8} \Omega m$

(10) The power of small fan is:-

چھوٹے پینکھے کی پاور ہوتی ہے۔ (10)

(A) 100 watts

(B) 750 watts

(C) 50 watts

(D) 10 watts

(11) _____ part of a D.C. motor

D.C. موٹر کا _____ حصہ ہر آدھے سائیکل کے بعد کوئل میں سے اپنے والے کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرتا ہے۔ (11)

reverses the direction of current through the coil after every energy half-cycle.

(A) The armature آرمچر

(B) The commutator کمیوٹریٹر

(C) The brushes برشز

(D) The slip rings سلیپ رنگز

(12) If $X = A \cdot B$, then X is 1 when:-

اگر $X = A \cdot B$ تو X 1 لیوے گی جبکہ (12)

(A) A = 1, B = 1

(B) A = 0, B = 0

(C) A = 0, B = 1

(D) A = 1, B = 0

SSC PART-II (10th CLASS)

PHYSICS (NEW SCHEME) GROUP-II (2015-2017 سیشن) (نیو سکیم) گروپ - دوسرا

TIME ALLOWED: 1.45 Hours

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

وقت = 1.45 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 48

کل نمبر = 48

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرپے میں درج ہے۔
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول**2- Attempt any five parts.**

10 = 2 x 5

سوال نمبر 2- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Electromagnetic waves do not require any medium for their propagation. Why? Give reason. (i) الیکٹرو میگنیٹک ویو کو اپنی اشاعت کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ بیان کیجیے۔
(ii) What do you know about "Ripple Tank"? (ii) رپل ٹینک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
(iii) How does crest and trough are produced in a water wave? (iii) پانی کی ایک ویو میں کرسٹ اور ٹراف کیسے پیدا ہوتے ہیں؟
(iv) What is the relation between Frequency and Pitch? (iv) فریکوئنسی اور پیچ میں کیا تعلق ہے؟
(v) Write two uses of Ultrasound in Medical field. (v) میڈیکل (طب) کے میدان میں الٹراساؤنڈ کے دو استعمالات تحریر کیجیے۔
(vi) How the direction of magnetic lines field are determined in current carrying straight wire? (vi) سیدھے کرنٹ بردار تار میں میگنیٹک فیلڈ لائنز کی سمت کا تعین کیسے کیا جاتا ہے؟
(vii) Write down two ways to increase the magnetic force. (vii) میگنیٹک فورس کو بڑھانے کے دو طریقے لکھیے۔
(viii) What is the function of "Relay"? (viii) "ری لے" کا کیا کام ہے؟

3- Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 3- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) State the Laws of Reflection of Light. (i) روشنی کے قوانین درخشن بیان کیجیے۔
(ii) Define Power of Lens and write its unit. (ii) پاور آف لینز کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔
(iii) How Farsightedness defect can be corrected? (iii) بصری نظر کی کمی کو کیسے دور کیا جاسکتا ہے؟
(iv) What is meant by Cell Phone? (iv) سیل فون سے کیا مراد ہے؟
(v) Write down two advantages of E-mail. (v) ای۔ میل کے دو فوائد لکھیے۔
(vi) Define Super Computer. (vi) سپر کمپیوٹر کی تعریف کیجیے۔
(vii) How can you define Natural Radioactivity? (vii) نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی کی آپ کیسے تعریف کر سکتے ہیں؟
(viii) What is meant by Cosmic Radiations? (viii) کاسمک ریڈیو ایکٹو سٹریمنس سے کیا مراد ہے؟

4- Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

سوال نمبر 4- کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Define Electrostatic Induction. (i) الیکٹرو سٹیٹک انڈکشن کی تعریف کریں۔
(ii) Define Electric Potential and also write its S.I unit. (ii) الیکٹریک پوٹینشل کی تعریف کریں اور اس کا S.I یونٹ بھی لکھیے۔
(iii) What is meant by Capacitance of the Capacitor? (iii) کپیسٹنس کی تعریف کریں۔ نیز اس کے S.I یونٹ کی بھی تعریف کریں۔
Also define its S.I unit.
(iv) Write a short note on Conventional Current. (iv) کنونشنل کرنٹ پر مختصر نوٹ لکھیے۔
(v) How Potential difference across a circuit component can be measured? Draw a diagram also. (v) سرکٹ میں گئے کی پوٹینشل ڈفرنس کو کیسے معلوم کیا جاسکتا ہے؟ ڈیاگرام بھی بنائیں۔
(vi) What is the difference between Ohmic and Non-Ohmic material? (vi) اوہمک اور نان اوہمک میٹریل میں کیا فرق ہے؟ مثالیں بھی لکھیے۔
Give examples also.
(vii) What is the difference between Analogue and Digital Electronics? (vii) اینالوگ اور ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں کیا فرق ہے؟ مثالیں بھی لکھیے۔
Give examples also.
(viii) Draw a symbol of NOT gate and also write its Truth Table. (viii) NOT گیٹ کی علامت بنائیں اور اس کی ٹریوٹھ ٹیبل تحریر کریں۔

SECTION-II حصہ دوم**NOTE: - Attempt any two questions.**

18 = 9 x 2

نوٹ - کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

- 5.(A) What is Total Internal Reflection? (الف) ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن سے کیا مراد ہے؟ رے ڈیاگرام سے وضاحت کریں۔
Explain with Ray diagram. 4
(B) ایک غلاباز پینڈولم کو جس کی لمبائی 0.99 m ہے۔ چاند پر لے جاتا ہے۔ پینڈولم کا پیریڈ 4.9 s ہے۔ چاند کی سطح پر g کی قیمت کیا ہوگی؟ 5
6.(A) Determine the equivalent resistance of parallel combination of resistors. (الف) پیرالیل طریقے سے جوڑے گئے رزسٹرز کی مساوی رزٹنس معلوم کیجیے۔ 4
(B) کتنے نیگیٹو طور پر چارجڈ ذرات کا چارج $100 \mu C$ کے برابر ہوگا جبکہ ایک نیگیٹو طور پر چارجڈ رے پر $1.6 \times 10^{-19} C$ چارج ہے۔ 5
7.(A) What is NAND gate? Draw its symbol and write its truth table. (الف) (NAND) نیٹنڈ گیٹ کیا ہے؟ اس کی علامت اور ٹریوٹھ ٹیبل بنائیں۔ 4
(B) ایک ریڈیو ایکٹیوٹھ گیٹ کی ہاف لائف 10 منٹ ہے۔ ابتدائی کاؤنٹ ریٹ 368 کاؤنٹ فی منٹ ہے۔ وقت معلوم کیجیے۔ جس میں کاؤنٹ ریٹ 23 کاؤنٹ فی منٹ ہو جائے۔ 5
(B) Half life of a radioactive element is 10 minutes. If the initial count rate is 368 count per minute, find the time by which count rate reaches 23 counts per minutes.